



Al Meezan
Investment Management Ltd.



EVOLVING
for
EXCELLENCE



Nine Months Report
March-2024



AL MEEZAN FAMILY OF FUNDS



Meezan
Rozana Amdani
Fund



Meezan
Cash Fund



Meezan
Islamic Income Fund



Meezan
Sovereign Fund



Meezan
Daily Income Fund



Meezan
Fixed Term Fund



Meezan
Islamic Fund



Al Meezan
Mutual Fund



KSE-Meezan
Index Fund



Meezan
Dedicated Equity
Fund



Meezan
Energy Fund



Meezan
Tahaffuz Pension
Fund



Meezan
GOKP Pension
Fund



Meezan
Balanced Fund



Meezan
Asset Allocation
Fund



Meezan
Gold Fund



Meezan
Pakistan Exchange
Traded Fund



Meezan
Financial Planning
Fund of Funds



Meezan
Strategic Allocation
Fund




Meezan
Strategic Allocation
Fund-II



Meezan
Strategic Allocation
Fund-III



TABLE *of* CONTENTS



- 05 Who We Are
- 06 Vision and Mission
- 07 Core Values
- 08 Directors' Report

◆ Fund Information

◆ Condensed Interim Statements of Assets and Liabilities


◆ Condensed Interim Income Statements

◆ Condensed Interim Statements of Comprehensive Income

◆ Condensed Interim Statements of Movement in Unitholders' Fund

◆ Condensed Interim Cash Flow Statements


◆ Notes to & Forming Part of the Financial Statements



MRAF	MCF	MIIF	MSF	MDIF	MFTF	MIF	AMMF	KMIF	MDEF	MEF	MTPF	GOKP	MBF	MAAF	MGF	MPETF	MFPF	MSAF	MSAF-II	MSAF-III
38	55	69	85	102	130	156	172	186	200	215	229	251	267	285	300	313	326	350	378	402
39	56	70	86	103	131	157	173	187	201	216	230	252	268	286	301	314	327	351	379	403
40	57	71	87	104	132	158	174	188	202	217	231	253	269	287	302	315	328	352	380	404
41	58	72	88	105	133	159	175	189	203	218	232	254	270	288	303	316	329	353	381	405
42	59	73	89	106	134	160	176	190	204	219	233	255	271	289	304	317	330	354	382	406
43	60	74	90	107	135	161	177	191	205	220	234	256	272	290	305	318	331	355	383	407
44	61	75	91	108	136	162	178	192	206	221	235	257	273	291	306	319	332	356	384	408



WHO we are



Al Meezan Investments has a vision: **To make Shariah Compliant Investing a first choice for investors.** With the largest and most diverse customer base of over 278,000 investors, ranging from institutions and businesses to individuals and High Net Worth clients, we offer investment solutions, mutual funds and investment advisory services catering to specific needs of each of our customers.

Our aim is to **innovate and consistently perform**, thereby facilitating investors in achieving their financial objectives in a Shariah compliant manner. Our philosophy is based on our 5 Core Values (Shariah Compliance, Ethical Standards, Professional Excellence, Service Excellence, Social Responsibility) which enables us to perform in harmony with our mission to establish Al Meezan as a leading and trusted brand for savings and investments.


As the **Largest Fund Manager in Pakistan** with over Rs.475 Billion assets under management (as of March 29th, 2024). However, in April 2024, we surpassed the Rs. 500 Billion mark, marking a significant milestone. With the highest management quality rating of **AM1 awarded by VIS & PACRA**, we offer a comprehensive range of **Shariah Compliant investment** solutions ranging from equity, balanced, asset allocation, fixed income, money market, capital preservation, fund of fund, commodity, Open End Islamic CIS as per SECP's Circular No.3 of 2022 and voluntary pension scheme. Depending on each investor's need, we provide expert guidance to them to achieve their financial objectives.

Our Separately Managed Accounts, popularly known as SMAs, offer clients a relatively customized option to Portfolio structuring and Investment Management. Under this Investment Advisory service, we offer our esteemed clients with a cost-effective solution to draft their own portfolio objectives and requirements, all the while, providing expert guidance and suggestions on how to achieve their investment objective.



Al Meezan
Investment Management Ltd.

AM1
Sung by UFI & ICA



Vision

To make Shariah compliant investing a first choice for investors.

Mission

To establish Al Meezan as a leading and trusted brand for savings and investments by offering innovative Shariah compliant investment solutions through ethical conduct, value added services and optimal returns, while protecting the interest of all stakeholders



OUR CORE VALUES

OUR CORE VALUES ARE
THE **5 PILLARS** OF
OUR FOUNDATION

They reflect and reinforce our character and standing as an organization. These values depict the paradigm of our internal and external expectations: Our dealings with members of the organization, our customers, the shareholders and the communities we serve. Our corporate culture is based on these values and serves as a beacon of guidance for all our employees.

Our values are not about what we do or how we do it in fact they are about who we are and why we exist. These values, which fuel our drive to achieve newer milestones at every step of our journey to success are:

Shariah *Compliance*

We ensure that all business operations and activities are Shariah Compliant. As a Shariah Compliant entity we are also accountable for ensuring that rulings and decisions made by the regulators, Shariah Board and Shariah Advisors are complied with across the organization.



Ethical *Standards*

We practice high ethical standards at work and in our services. Maintaining high ethical standards in the workplace translates in prioritizing the interest of the client, acting with integrity, competence and diligence, and respecting our dealings with the public, clients, prospective clients and colleagues.

Professional *Excellence*

Professional excellence is about achieving excellence as an employee. It is at the core of being a "professional." Ensuring our approach to work and the people we work with—supervisors, colleagues and/or customers is in a professional and respectful manner.

Service *Excellence*

Service excellence is an attitude engrained in every department and employee. From support staff to the CEO, we simply go beyond delivering products and helping customers achieve their financial objectives. It is essential that we provide a unique customer experience by proactively anticipating and exceeding customers needs every time. Excellence is a consistent, premium service at every point of contact which is set by our service-oriented tone that drives our company's strategy at every level.

Social *Responsibility*

We work in an ethical framework, which suggests that as an entity we have an obligation to act for the benefit of our society at large. We want to contribute towards sustainable development not only through our products but also through the way we conduct business.



OUR Branch NETWORK



SOUTHERN REGION

FTC Branch, Karachi

Ground Floor, Finance and Trade Centre,
Shahrah-e-Faisal, Karachi
Tel: (92-21) 111-633-926, 35630722-26

Sales Hub, Karachi

Banglow # 43-5-E/2, Shah Abdul Latif Road,
PECHS Block 6, Karachi.
Tel: (92-21) 34559262-5

North Nazimabad Branch, Karachi

Shop # G-1, G-2, Ground Floor, Ajwa Residency,
B-1, Block-L, North Nazimabad, Karachi.
Tel: (92-21) 36641491-4, 021-37132530, 021-36100074

Bahadurabad Branch, Karachi

Shop # 4, Ground floor, Adam Arcade, B.M.C.H
Society, Shaheed-e-Millat Road, Block #3, Karachi.
Tel: (92-21) 34923112-6

DHA Branch, Karachi

Shop # 01 Ground Floor, Sunset Commercial St-02,
Khayaban-e-Jami, Near Baitussalam Masjid, Phase IV,
D.H.A Karachi.
Tel: (92-21) 35802411-4

Gulshan-e-Iqbal Branch, Karachi

Shop # 02, Ground Floor, Shejazon Center,
Block 15, Gulshan-e-Iqbal Karachi.
Tel: (92-21) 34990491-4

Site Area Branch, Karachi

Shop # 22, Ground Floor S.P Chamber,
Plot # B/9-B-1, SITE Area, Karachi.
Tel: (92-21) 32570051-2

DHA, Badar Commercial Branch, Karachi

Plot # 8C, Shop # 03, Street # 10, Badar
Commercial, DHA Phase V, Karachi.
Tel: (92-21) 35171381-4, 021-37131680-1,
021-37131683-4

Gulistan-e-Jauhar Branch, Karachi

Plot # B11, Shop # 06, Ground Floor, Alam Shah
Bukhari Apartment (Right Opposite Hilltop Banquet
Hall), Block -19, Gulistan-e-Jauhar, Karachi.
Tel: (92-21) 34187181-84

Clifton Branch, Karachi

Shop # 3, Ground Floor, Plot # D-39,
Tabba Tower Gizri Road, Karachi.
Tel: (92-21) 35155219-21

Hyderabad Branch

Shop # A-1, 1 & 2, Mezzanine Floor
Shifa Heaven, Main Auto Bhan Road Hyderabad.
Tel: (92-22) 3821277-80

CENTRAL REGION

Gulberg Branch, Lahore

Ground Floor, Leeds Centre, Gulberg III,
Main Boulevard, Lahore.
Tel: (92-42) 111-633-926,
042-35783608-12, 042-32560548

DHA Branch, Lahore

1st Floor, Meezan Bank T Block Branch, Plot No. 7,
CCA-2, T Block, Phase II, DHA Lahore.
Tel: (92-42) 35747060-3, 042-32560125

Johar Town Branch, Lahore

Plot No.39, Block-L, M.A. Johar Town Scheme,
Abdul Haq Road, Lahore.
Tel: (92-42) 32510568, 042-32510561, 042-32510562

Faisalabad Branch (Susan Road)

Shop # 27, 1st Floor Plot # 27,
Susan Road Near Chenab Market
Faisalabad.
Tel: 041-8503267-9, (92-41)5250001



Multan Branch

1st Floor, Meezan Bank Rasheedabad Chowk
Branch, Aneesa Plaza Rasheedabad Chowk,
Khanewal Road Multan.
Tel: (92- 61) 6305911-3, (061) 2001001-2

Gujranwala Branch

Ground Floor, 387-A, Model Town,
Gujranwala.
Tel: (92-55) 842205-8

Sialkot Branch

Second Floor Meezan Bank, Gayum Plaza,
Aziz Shaheed Road, Sialkot Cant, Sialkot.
Tel: (92-52) 4290460-2

Gujrat Branch

P-1037, Ground Floor, G.T Road, IX Block,
Gujrat.
Tel: (92-53) 3724766-67

Bahawalpur Branch

Shop # 27, Ground Floor Liberty Square,
Fuji Basti Chowk, Airport Road,
Bahawalpur Cantt .
Tel: (92-301) 1121912

NORTHERN REGION

Islamabad Branch

Office No. 7 Ground Floor, Buland Markaz
Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad.
Tel: (92-51) 7080414-15, 051-7080408

Peshawar Branch

Office No. 6-D, Ground Floor, 6 Saddar Road,
Peshawar Cantt, Peshawar.
Tel: (92-91) 5271911-14

Abbottabad Branch

Office No. 2, 3rd Floor Zaman Plaza,
Near Ayub Medical Complex,
Mansehra Road, Abbottabad.
Tel: (92-992) 414123-24

Rawalpindi Branch

Plot # 17, Zubair Plaza, 1st Floor, Chaklala
Scheme III, Main Commercial Area Rawalpindi
Cantt, Rawalpindi.
Tel: (92-51) 5766364-6

DIRECTORS' REPORT – **FUNDS UNDER MANAGEMENT COMPANY**

The Board of Directors of Al Meezan Investment Management Limited is pleased to present the financial statements of the following open-end funds and a voluntary pension scheme for the nine months ended March 31, 2024.

Money Market Fund

1. Meezan Rozana Amdani Fund
2. Meezan Cash Fund

Income Funds

3. Meezan Islamic Income Fund
4. Meezan Sovereign Fund
5. Meezan Daily Income Fund

Shariah Compliant Fixed Rate/Return or Open-end CIS as per SECP's Circular No. 3 of 2022

6. Meezan Fixed Term Fund

Equity Funds

7. Meezan Islamic Fund
8. Al Meezan Mutual Fund
9. KSE-Meezan Index Fund
10. Meezan Dedicated Equity Fund
11. Meezan Energy Fund

Pension Fund

12. Meezan Tahaffuz Pension Fund
13. Meezan GOKP Pension Fund

Balanced Fund

14. Meezan Balanced Fund

Asset Allocation Fund

15. Meezan Asset Allocation Fund

Commodity Fund

16. Meezan Gold Fund

Exchange Traded Fund

17. Meezan Pakistan Exchange Traded Fund

Funds of Funds

18. Meezan Financial Planning Fund of Fund
19. Meezan Strategic Allocation Fund
20. Meezan Strategic Allocation Fund-II
21. Meezan Strategic Allocation Fund-III

Economic Review

Pakistan's economy posted strong recovery during nine months of FY24 following the onset of the short-term IMF SBA program in July 2023. The receipt of the first tranche of USD 1.2 billion from the IMF, unlocked pending bilateral assistance of USD 2 billion from Saudi Arabia and USD 1 billion from UAE. As a result, the SBP's forex reserves rose to over USD 8 billion by March 2024 from USD 4 billion in May 2023. The IMF also approved a staff-level agreement for the final tranche of USD 1.1bn, which will be received soon after IMF executive board's approval. The government is also planning to secure a new long-term IMF program to repay its loans and strengthen its forex reserves.

Pakistan's current account balance continued to improve during the period, with a deficit of only USD 1.0 billion during the eight months of FY24 period, an impressive decline of 74% YoY from USD 3.8 billion in the same period last year. This was driven by a 10% YoY increase in goods exports to USD 20.5 billion and a 9% YoY decrease in goods imports to USD 34.1 billion. Consequently, the trade deficit contracted by 28% YoY to USD 13.5 billion. Worker remittances were almost flat YoY at USD 18.1 billion during the period.

A crackdown by the authorities on speculative and illegal activities in the forex market helped to arrest the widening of spread between the interbank and open-market exchange rates. The interbank PKR-USD exchange rate appreciated from 285.99 in June 2023 to 277.94 at March 31, 2024, with the lowest level recorded at 307.10 during the period.

Inflation came down significantly towards the end of the nine months period. The National CPI for March 2024 came in at 20.7%, a 22-months low, down from a recent peak of 38% in May 2023. Headline inflation averaged at 27.2% during nine months of FY24, almost flat as compared to the same period last year. Moderating inflation in Food and Transport indices countered the increase in Housing & Utilities; the latter increase was due to two large increase in consumer gas tariffs during the period.

On the fiscal front, Pakistan recorded a budget deficit of PKR 2.4 trillion or 2.3% of GDP and a primary surplus of 1.7% of GDP for first half of FY24, in line with the IMF targets for FY24. Tax revenues increased impressively by 30% YoY to PKR 3.8 trillion, despite an economic slowdown.

Based on improved agriculture results and prospects, gradual recovery in both LSM and Services sector, along with low base effect, SBP expects real GDP growth in the range of 2% - 3% while the IMF has placed its forecast at 2% for FY24.

In other developments, Mr. Muhammad Aurangzeb, former President of Habib Bank Ltd., was appointed as the Finance Minister in the new government. His selection has been positively received by the market, as he is expected to effectively negotiate a new long-term IMF program.

Money Market Review

During the first nine months of FY24, the SBP has kept the policy rate unchanged due to inflationary pressures. Although, the market was anticipating a rate cut in March 2024 monetary policy meeting, which was also evident from the decline in secondary market yields. However, after the no change in policy rate decision from the SBP, the yields went up slightly. On the liquidity front, the money market remained stable due to regular short-term and medium-term Open Market Operations (OMO) by the SBP, which is why the rates remained below the discount rate.



Fixed Rate Ijarah

Ijarah	Type	Issue Size (bn)	Issue Date	Maturity	Remaining Life	Coupon	Reval			Change
							30-Jun-23	31-Mar-24	YTM	
XXIII	Fixed - 5 years	44.59	29-Jul-20	29-Jul-25	1.33	8.37%	85.70	83.92	0.23	-1.78
XXIV	Fixed - 5 years	8.25	20-Jan-21	20-Jan-26	1.81	9.45%	88.00	84.00	0.20	-4.00
XXV	Fixed - 5 years	12.73	6-Oct-21	6-Oct-26	2.52	9.70%	89.00	84.00	0.18	-5.00
XXVI	Fixed - 5 years	323.83	15-Dec-21	15-Dec-26	2.72	11.40%	90.08	87.00	0.18	-3.08
XXVII	Fixed - 5 years	60.89	27-Apr-22	27-Apr-27	3.08	12.49%	92.37	88.61	0.17	-3.76
XXVIII	Fixed - 5 years	0.25	16-Nov-22	16-Nov-27	3.64	12.49%	97.37	88.83	0.17	-8.54
XXXI	Fixed - 1 Year	11.29	17-Apr-23	17-Apr-24	0.05	21.25%	100.11	100.10	0.18	-0.01
XXXII	Fixed - 3 Years	25.01	17-Apr-23	17-Apr-26	2.05	18.24%	100.00	100.50	0.18	0.50
XXXIII	Fixed - 1 Year	1.25	22-May-23	22-May-24	0.15	21.30%	100.00	100.00	0.20	0.00
XXXIV	Fixed - 1 Year	0.69	26-Jun-23	26-Jun-24	0.24	21.29%	0.00	100.37	0.19	0.00
XXXV	Fixed - 3 Years	292.22	26-Jun-23	26-Jun-26	2.24	18.49%	0.00	103.03	0.17	0.00
XXXVI	Fixed - 1 Year	6.39	12-Jul-23	12-Jul-24	0.29	22.15%	0.00	100.06	0.21	0.00
XXXVII	Fixed - 1 Year	1.81	7-Aug-23	7-Aug-24	0.36	22.00%	0.00	100.00	0.21	0.00
XXXVIII	Fixed - 1 Year	10.16	20-Sep-23	20-Sep-24	0.48	22.95%	0.00	100.35	0.22	0.00
XXXIX	Fixed - 5 Years	0.50	20-Sep-23	20-Sep-28	4.48	16.50%	0.00	101.70	0.16	0.00
XL	Fixed - 1 Year	111.25	9-Oct-23	9-Oct-24	0.53	22.49%	0.00	100.74	0.21	0.00
XLI	Fixed - 3 Years	34.65	4-Dec-23	4-Dec-26	2.68	16.19%	0.00	100.20	0.16	0.00
XLII	Fixed - 5 Years	52.85	4-Dec-23	4-Dec-28	4.69	15.75%	0.00	100.50	0.16	0.00
XLIII	Fixed - 1 Year	36.07	11-Dec-23	9-Dec-24	0.70	19.52%	0.00	88.94	0.18	0.00
XLIV	Fixed - 1 Year	6.42	24-Jan-24	24-Jan-25	0.82	19.50%	0.00	85.50	0.21	0.00
XLV	Fixed - 3 Years	0.73	24-Jan-24	24-Jan-27	2.82	16.05%	0.00	100.00	0.16	0.00
XLVI	Fixed - 5 Years	24.22	24-Jan-24	24-Jan-29	4.83	15.49%	0.00	100.00	0.15	0.00
XLVII	Fixed - 1 Year	1.27	21-Feb-24	19-Feb-25	0.90	20.10%	0.00	83.30	0.22	0.00
XLVIII	Fixed - 1 Year	13.49	15-Mar-24	14-Mar-25	0.96	20.10%	0.00	83.91	0.20	0.00
XLIX	Fixed - 1 Year	15.95	28-Mar-24	27-Mar-25	1.00	20.24%	0.00	83.21	0.20	0.00
Total		1096.75								

Equity Review

During the nine months of FY24, the equity market witnessed its most robust rally since 2016, as the KMI-30 index surged by 58.8% to close at 112,364 points. Similarly, the KSE-100 index rose by 61.6% during the period, closing at 67,005 points. The strong rally was primarily driven by the initiation of a new IMF program which began at the end of June 2023 (a nine-month Stand-By Arrangement (SBA) of the USD 3 billion until April 2024).

During the period, the market rally was supported by the growing expectations of commencement of interest rate cuts since the inflation has peaked out. However, the SBP maintained the policy rate at 22% throughout of nine months of FY24 despite an easing of around 150bps in T-Bill yields during the period. In the March 2024 monetary policy meeting, the SBP adopted a cautious stance and held rates for a seventh consecutive meeting despite considerable decline in inflation from the peak, moderating current account deficit and a successful staff level agreement with the IMF for the final tranche.

An important development during this period was the general elections which were held on February 8, 2024. The formation of a PML-N led new government is anticipated to have a positive impact on the market. The rebound in investor confidence was also reflected in higher participation during the period as KSE100 Index volumes tripled to an average daily volume of 235 million shares, compared to 96 million shares in the same period last year. Meanwhile, the average daily volumes of the KMI 30 index jumped by 91% YoY from 58 million shares to 111 million shares during the period.



International agencies improved credit rating of Pakistan during the period as a part of positive spillovers of the IMF programs. The International credit rating agency Fitch upgraded Pakistan to 'CCC' in July 2023. This was reaffirmed in December 2023. Corporate results have remained strong for the Sep - Dec period, with the KSE-100 quarterly profitability increased by 45% YoY. This was broadly reinforced by profitability holding up for the cyclical sectors despite tough macroeconomic backdrop. While, strong earnings of non-cyclical sectors, especially the energy chain and banking sector continued to provide a strong support.

On the global front, the US Federal Reserve kept the interest rate at a 22-years high of 5.25%-5.50% until the March 2024 meeting, having held rates for the fifth consecutive meetings since July 2023. Most significantly, the Fed indicated the possibility of three interest rate cuts in 2024. Many global indices reached their all-time high levels during the nine months period. The S&P 500 index rose 18% during the period, while the MSCI Emerging market index rose 5.1%. In the US, the benchmark 10-year bond yields recovered to 4.2% from a recent low of 3.9% in January 2024.

Major contributors to the Index:

Among the key sectors, Refinery, Power Generation and Cable and Electric Goods sectors were the best-performing sectors. The top contributing stocks in the KMI-30 index during the nine months of FY24 were:

Major positive contributors to the Index	Contribution to KMI-30 (Points)	Total Return (%)
Meezan Bank Ltd	6,265	147.33
Hub Power Co Ltd	5,167	74.29
Engro Fertilizers Ltd	4,689	77.78
Pakistan Petroleum Ltd	3,210	79.49


On the flip side, Technology, Pharmaceutical and Paper & Board sectors were among the underperforming sectors. The key laggards in the KMI-30 index during the nine months of FY24 were:

Major under performers to the Index	Contribution to KMI-30 (Points)	Total Return (%)
Systems Ltd	-378	-4.45
Lotte Chemical Pakistan Ltd	-233	-29.11
TPL Properties Ltd	-31	-10.51
Ghani Global Holdings Ltd	22	0.81

Equity Flows

Foreigners turned buyers during the nine months of FY24 with an overall inflow of around USD 74.88 million after a long time. Among key sectors that reported net buying by foreigners were Banks (USD 29.2 million), Power Generation (USD 10.9 million) and Cement (USD 10.4 million). On the local front, Insurance Companies were net buyers of USD 120.9 million mainly led by state enterprise entity. While Banks/DFI (USD 112.59 million) and Mutual Funds (USD 54.6 million) emerged as the highest net sellers in the equity market.

The following graph shows the movement of the KMI-30 index during the nine months of FY24 along with key driving factors:




Mutual Fund Industry Review


During the eight months of FY24, the AUMs of the mutual fund industry increased by 46.3% to Rs. 2,388 billion. Shariah Compliant AUMs grew by 56.05% to Rs. 1,160 billion, which brought the share of Shariah Compliant funds to 48.6% in the overall mutual fund industry. Al Meezan's market share in the Mutual Funds industry stood at 19.3% while amongst the Shariah Compliant Funds, it stands at 39.8%, the highest in the industry by the end of February 2024. In the Pension Fund category, Meezan Tahaffuz Pension Fund's market share stood at 33.7% while amongst the Shariah Compliant Funds, it stands at 51.3%, the highest in the industry by the end of February 2024.



Al Meezan's Market Share in the Industry



Meezan Tahaffuz Pension Fund Market Share in the Industry





Performance Review (Funds)

The table below depicts a summary of the nine months of FY24 performance of funds under our management:

Funds	Type	Net Assets Rs. in millions	Growth in Net Assets for 9MFY24 (%)	Returns for 9MFY24 (%)	Benchmark for 9MFY24 (%)	
Money Market/Fixed Income Funds						
Meezan Rozana Amdani Fund (MRAF)	Money Market	114,830	20	21.05	9.96	
Meezan Cash Fund (MCF)	Money Market	60,989	136	20.67	9.80	
Meezan Daily Income Fund (MDIP-1)	Income	150,162	65	21.45	9.79	
Meezan Daily Income Fund – MMMP	Income	9,783	76	19.51	9.79	
Meezan Sehi Account Plan (MDIF-SEHL)	Income	79	1,813	19.72	9.79	
Meezan Munafa Plan-I (MDIF-MMP-I)*	Income	2,133	-	21.91	10.12	
Meezan Sovereign Fund (MSF)	Income	51,596	534	21.89	18.74	
MFTF-Meezan Paldar Munafa Plan-IV	Open End Islamic CIS as per SECP's Circular No.3 of 2022	4,897	7	19.65	6.41	
MFTF-Meezan Paldar Munafa Plan-V*		8,357	-	22.45	9.18	
MFTF-Meezan Paldar Munafa Plan-VI		1,043	5	20.33	6.75	
MFTF-Meezan Paldar Munafa Plan-VII		853	51	21.18	7.52	
Meezan Islamic Income Fund (MIIF)	Income	14,926	30	20.43	9.79	
Equity Funds						
Meezan Islamic Fund (MIF)	Equity	20,730	21	55.57	58.82	
Al Meezan Mutual Fund (AMMF)	Equity	4,938	57	58.30	58.82	
KSE Meezan Index Fund (KMIF)	Equity	3,590	39	56.32	58.82	
Meezan Dedicated Equity Fund (MDEF)	Equity	360	-11	58.14	58.82	
Meezan Energy Fund (MEF)	Equity	1,184	162	70.47	58.82	
Pension Fund Scheme						
Meezan Tahaffuz Pension Fund	Pension Fund Scheme					
Equity sub Fund		4,517	31	60.19		
Debt sub Fund		6,160	17	20.10		
Money Market sub Fund		10,908	36	21.69		
Gold Sub Fund		471	13	4.85		
Meezan GOKP Pension Fund						
Money Market sub Fund*	GOKP Pension Fund	74	-	20.77		
Balanced Fund						
Meezan Balanced Fund (MBF)	Balanced	2,160	28	34.08	28.91	
Asset Allocation Fund						
Meezan Asset Allocation Fund (MAAF)	Asset Allocation	307	-32	47.66	48.32	
Commodity Fund						
Meezan Gold Fund (MGF)	Commodity	1,601	19	4.50	4.82	
Exchange Traded						
Meezan Pakistan Exchange Traded Fund (MZNP-ETF)	Exchange Traded	78	12	64.85	71.03	
Fund of Funds						
Meezan Financial Planning Fund of Fund						
Aggressive	Fund of Fund	74	16	42.06	45.10	
Moderate		70	12	35.16	34.69	
Conservative		55	-6	25.29	22.91	
Very Conservative Allocation Plan (MPFP-V. Con)*		0.46	-	20.69	14.78	
MAAP-I		87	22	38.47	34.06	
Meezan Strategic Allocation Fund						
MSAP-I		135	-29	37.45	39.32	
MSAP-II		77	-52	37.53	39.00	
MSAP-III		125	-4	37.58	39.53	
MSAP-IV		63	-17	37.34	33.28	
MSAP-V	39	17	36.10	31.72		
Meezan Strategic Allocation Fund – II						
MSAP-II -MCPPIV	282	19	26.12	23.65		
MSAP-II -MCPPIV	28	13	17.46	13.89		
Meezan Strategic Allocation Fund – III						
MSAP-II -MCPPIV	244	3	26.35	23.73		

* Launched MDIF-MMP-I (Aug 29, 2023), MPMP-V (Jan 30, 2024), MPFP-V. Con (Aug 22, 2023), MGOKP-MMSF (Dec 14, 2023)



Performance Review (Funds)

Meezan Rozana Amdani Fund

The net assets of Meezan Rozana Amdani Fund (MRAF) at March 31, 2024 were Rs. 114,830 million compared to Rs. 96,006 million at June 30, 2023, an increase of 20%. The net asset value (NAV) per unit at March 31, 2024 was Rs. 50.00. During the period, the fund provided an annualized return of 21.05% as compared to the benchmark annualized return of 9.96%. At nine months end, 25% of the fund was placed in Term Deposit Receipts, 24% in Islamic Corporate Sukuks, and 49% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 2% in Others.

Meezan Cash Fund

The net assets of Meezan Cash Fund (MCF) at March 31, 2024 were Rs. 60,989 million compared to Rs. 25,882 million at June 30, 2023, an increase of 136%. The net asset value (NAV) per unit at March 31, 2024 was Rs. 58.9612 as compared to Rs. 51.0165 on June 30, 2023 translating into an annualized return of 20.67% as compared to the benchmark annualized return of 9.80%. At nine months end, 7% of the fund was placed in Islamic Corporate Sukuks, 8% of the fund was placed in Term Deposit Receipts and 83% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 2% in Others.

Meezan Islamic Income Fund

The net assets of Meezan Islamic Income Fund (MIIF) at March 31, 2024 were Rs. 14,926 million compared to Rs. 11,474 million at June 30, 2023, an increase of 30%. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 59.6008 compared to 51.6491 per unit on June 30, 2023 translating into an annualized return of 20.43% compared to the benchmark annualized return of 9.79%. At nine months end, the fund was 11% invested in Islamic Corporate Sukuks, 53% in GoP Ijarah / Govt. Guaranteed Sukuks and 32% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 4% in Others.

Meezan Sovereign Fund

The net assets of Meezan Sovereign Fund (MSF) at March 31, 2024 were Rs. 51,596 million compared to Rs. 8,133 million at June 30, 2023, an increase of 534%. The net asset value (NAV) per unit at March 31, 2024 was Rs. 60.7350 as compared to Rs. 52.1375 per unit on June 30, 2023 translating into an annualized return of 21.89% compared to the benchmark annualized return of 18.74%. At nine months end, the fund was 96% invested in GoP Ijarah/Govt. Guaranteed Sukuks, and 1% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 3% in Others.

Meezan Daily Income Fund

Meezan Daily Income Fund – MDIP – I

The net assets of the plan at March 31, 2024 were Rs. 150,162 million compared to Rs. 91,147 million at June 30, 2023, an increase of 65%. The net asset value (NAV) per unit at March 31, 2024 was Rs. 50.00. During the nine months the plan provides an annualized return of 21.45% as compared to the benchmark annualized return of 9.79%. At nine months end, 13% of the fund was placed in Term Deposit Receipts, 6% in Islamic Corporate Sukuks, 38% in GoP Ijarah / Govt. Guaranteed Sukuks, 40% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 3% in Others.

Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan)

The net assets of the plan as at March 31, 2024 stood at Rs. 9,783 million compared to Rs. 5,543 million at June 30, 2023, an increase of 76%. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 50.00. During the nine months the plan provides an annualized return of 19.51% as compared to the benchmark annualized return of 9.79%. At nine months end, 99% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 1% in Others.



Meezan Daily Income Fund (Meezan Munafa Plan)

Meezan Munafa Plan was launched on August 29, 2023. The net assets of the plan as at March 31, 2024 stood at Rs. 2,133 million. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 56.4543. During the period the plan provides an annualized return of 21.91% as compared to the benchmark annualized return of 10.12%. At nine months, the fund was 75% invested in GoP Ijarah / Govt. Guaranteed Sukuks, 25% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks.

Meezan Sehl Account Plan - MDIF-SEHL

The net assets of the plan as at March 31, 2024 stood at Rs. 79 million. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 57.5779. During the nine months the plan provides an annualized return of 19.72% as compared to the benchmark annualized return of 9.79%. At nine months end, 99% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks 1% in Others.

Meezan Fixed Term Fund

Meezan Paaidaar Munafa Plan - IV

The net assets of the plan as at March 31, 2024 stood at Rs. 4,897 million. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 57.5197. During the nine months the plan provides an annualized return of 19.65% as compared to the benchmark annualized return of 6.41%. At nine months end, the plan was 92% was placed in GoP Ijarah Sukuks, 1% of the assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 7% pertains to profit receivable on GoP Ijarah Sukuks.

Meezan Paaidaar Munafa Plan - V

Meezan Paaidaar Munafa Plan - V was re-launched on January 30, 2024. The net assets of the plan as at March 31, 2024 stood at Rs. 8,357 million. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 51.8762. During the period, plan provides an annualized return of 22.45% as compared to the benchmark annualized return of 9.18%. At period end, the plan was 94% was placed in GoP Ijarah Sukuks, 1% of the net assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and 5% pertains to profit receivable on GoP Ijarah Sukuks.

Meezan Paaidaar Munafa Plan - VI

The net assets of the plan as at March 31, 2024 stood at Rs. 1,043 million. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 57.7764. During the nine months the plan provides an annualized return of 20.33% as compared to the benchmark annualized return of 6.75%. At nine months end, the plan was 87% placed in Corporate Sukuks, 7% of the assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and Others.

Meezan Paaidaar Munafa Plan - VII

Meezan Paaidaar Munafa Plan - VII was launched on July 11, 2023. The net assets of the plan as at March 31, 2024 stood at Rs. 853 million. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 57.6600. During the period the plan provides an annualized return of 21.18% as compared to the benchmark annualized return of 7.52%. At nine months end, the plan was 87% was placed in Corporate Sukuks, 10% of the assets were placed with Islamic Banks or windows of Islamic banks and Others.

Meezan Islamic Fund

The net assets of Meezan Islamic Fund (MIF) as at March 31, 2024 stood at Rs. 20,730 million compared to Rs. 17,155 million at the end of June 30, 2023, an increase of 21%. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 85.2546 in comparison to Rs. 54.8025 per unit as on June 30, 2023 translating into a return of 55.57% during the nine months compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 58.82%.

Al Meezan Mutual Fund

The net assets of Al Meezan Mutual Fund (AMMF) as at March 31, 2024 were Rs. 4,938 million compared to Rs. 3,153 million at the end of June 30, 2023, an increase of 57%. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 24.8156 compared to Rs. 15.6760 per unit on June 30, 2023 translating into a return of 58.30% during the nine months compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 58.82%.

KSE Meezan Index Fund

The net assets of KSE Meezan Index Fund (KMIF) as at March 31, 2024 were Rs. 3,590 million compared to Rs. 2,585 million at June 30, 2023, an increase of 39%. The net asset value (NAV) per unit at March 31, 2024 was Rs. 101.5044 as compared to Rs. 64.9320 per unit on June 30, 2023 translating into a return of 56.32% during the nine months compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 58.82%.

Meezan Dedicated Equity Fund

The net assets of Meezan Dedicated Equity Fund (MDEF) as at March 31, 2024 were Rs. 360 million compared to Rs. 406 million at June 30, 2023, a decrease of 11%. The net asset value per unit (NAV) at March 31, 2024 was Rs. 63.2427 as compared to Rs. 39.9919 per unit on June 30, 2023 translating into a return of 58.14% during the nine months compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 58.82%.

Meezan Energy Fund

The net assets of Meezan Energy Fund (MEF) as at March 31, 2024 were Rs. 1,184 million compared to Rs. 452 million in June 2023, an increase of 162%. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 52.5891 as compared to Rs. 30.8497 per unit on June 30, 2023, translating into a return of 70.47% during the nine months compared to the benchmark return of KSE Meezan Index (KMI 30) of 58.82%.

Meezan Tahaffuz Pension Fund (MTPF)

MTPF comprises of four sub-funds, namely Equity sub-fund, Debt sub-fund, Money Market sub-fund and Gold sub-fund. For the nine months ended March 31, 2024, the equity sub-fund provided a return of 60.19% and gold sub-fund provided a return of 4.85%, while the debt and money market sub-funds provided annualized returns of 20.10% and 21.69% respectively. Performance review for each sub fund is given as under:

Equity Sub Fund

The net assets of this sub fund stood at Rs. 4,517 million at March 31, 2024 compared to Rs. 3,458 million at June 30, 2023, an increase of 31%. The net asset value (NAV) per unit of the plan was Rs. 779.3997 at the end of March 31, 2024 as compare to Rs. 486.5451 as at June 30, 2023.

Debt Sub Fund

The net assets of this sub fund stood at Rs. 6,160 million at March 31, 2024 compared to Rs. 5,252 million at June 30, 2023, an increase of 17%. The net asset value per (NAV) unit of the plan was Rs. 401.2863 at the end of March 31, 2024 as compare to Rs. 348.5006 as at June 30, 2023.



Money Market Sub Fund

The net assets of this sub fund stood at Rs. 10,908 million at March 31, 2024 compared to Rs. 8,031 million at June 30, 2023, an increase of 36%. The net asset value (NAV) per unit of the plan was Rs. 395.0721 at the end of March 31, 2024 as compare to Rs. 339.5715 as at June 30, 2023.

Gold Sub Fund

The net assets of this sub fund stood at Rs. 471 million at March 31, 2024 compared to Rs. 416 million at June 30, 2023, an increase of 13%. The net asset value (NAV) per unit of the plan was Rs. 306.8230 at the end of March 31, 2024 as compare to Rs. 292.6303 as at June 30, 2023.

Meezan GOKP Pension Fund (MGOKPPF)

MGOKPPF was launched on December 14, 2023, namely Money Market sub-fund. For the nine months ended March 31, 2024, the money market sub-funds provided annualized returns of 20.77%. Performance review for each sub fund is given as under:

Money Market Sub Fund

The net assets of this sub fund stood at Rs. 74 million at March 31, 2024. The net asset value (NAV) per unit of the plan was Rs. 106.1451 at the end of March 31, 2024 as compare to Rs. 100.0000 as at December 14, 2023.

Meezan Balanced Fund

The net assets of Meezan Balanced Fund (MBF) as at March 31, 2024 were Rs. 2,160 million compared to Rs. 1,689 million at June 30, 2023, an increase of 28%. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 20.9115 as compared to Rs. 15.5966 per unit on June 30, 2023 translating into a return of 34.08% during the nine months compared to the benchmark return of 28.91%.

Meezan Asset Allocation Fund

The net assets of Meezan Asset Allocation Fund (MAAF) as at March 31, 2024 were Rs. 307 million compared to Rs. 454 million at June 30, 2023, a decrease of 32%. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 58.8579 as compared to Rs. 39.8599 per unit on June 30, 2023 translating into a return of 47.66% during the nine months compared to the benchmark return of 48.32%.

Meezan Gold Fund

The net assets of the fund as at March 31, 2024 were 1,601 million compared to Rs. 1,346 million at June 30, 2023, an increase of 19%. The net asset value (NAV) per unit at March 31, 2024 was Rs. 164.5044 as compared to Rs. 157.4219 per unit on June 30, 2023 translating into a return of 4.50% during the nine months compared to the benchmark return of 4.82%.

Meezan Pakistan Exchange Traded Fund

The net assets of Meezan Pakistan Exchange Traded Fund (MPETF) as at March 31, 2024 were Rs. 78 million compared to Rs. 69 million in June 2023, an increase of 12%. The net asset value (NAV) per unit as at March 31, 2024 was Rs. 12.8822 per unit as compared to Rs. 7.8147 translating into a return of 64.85% during the nine months compared to the benchmark return of MZNPI of 71.03%.

Meezan Financial Planning Fund of Funds

Aggressive Allocation Plan

The net assets of the plan were Rs. 74 million as at March 31, 2024 compared to Rs. 64 million at June 30, 2023. The plan provided a return of 42.06% during the nine months compared to the benchmark return of 45.10%.



Moderate Allocation Plan

The net assets of the plan were Rs. 70 million as at March 31, 2024 compared to Rs. 62 million at June 30, 2023. The plan provided a return of 35.16% during the nine months compared to the benchmark return of 34.69%.

Conservative Allocation Plan

The net assets of the plan as at March 31, 2024 were Rs. 55 million compared to Rs. 59 million at June 30, 2023. The plan provided a return of 25.29% during the nine months compared to the benchmark return of 22.91%.

Very Conservative Allocation Plan

The plan was launched on August 18, 2023. The net assets of the plan as at March 31, 2024 were Rs. 0.5 million. The plan provided a return of 20.69% during the nine months compared to the benchmark return of 14.78%.

Meezan Asset Allocation Plan-I

The net assets of the plan as at March 31, 2024 were Rs. 87 million compared to Rs. 71 million at June 30, 2023. The plan provided a return of 38.47% during the nine months compared to the benchmark return of 34.06%.

Meezan Strategic Allocation Fund

Meezan Strategic Allocation Plan-I

The net assets of the plan as at March 31, 2024 were Rs. 135 million compared to 188 million at June 30, 2023. The plan provided a return of 37.45% during the nine months compared to the benchmark return of 39.32%.

Meezan Strategic Allocation Plan-II

The net assets of the plan as at March 31, 2024 were Rs. 77 million compared to Rs. 160 million at June 30, 2023. The plan provided a return of 37.53% during the nine months compared to the benchmark return of 39.00%.

Meezan Strategic Allocation Plan-III

The net assets of the plan as at March 31, 2024 were Rs. 125 million compared to Rs. 131 million at June 30, 2023. The plan provided a return of 37.58% during the nine months compared to the benchmark return of 39.53%.

Meezan Strategic Allocation Plan-IV

The net assets of the plan as at March 31, 2024 were Rs. 63 million compared to Rs. 77 million at June 30, 2023. The plan provided a return of 37.34% during the nine months compared to the benchmark return of 33.28%.

Meezan Strategic Allocation Plan-V

The net assets of the plan as at March 31, 2024 were Rs. 39 million compared to Rs. 34 million at June 30, 2023. The plan provided a return of 36.10% during the nine months compared to the benchmark return of 31.72%.

Meezan Strategic Allocation Fund -II

Meezan Capital Preservation Plan-IV

The net assets of the plan as at March 31, 2024 were Rs. 282 million compared to Rs. 237 million at June 30, 2023. The plan provided a return of 26.12% during the nine months compared to the benchmark return of 23.65%.

Meezan Capital Preservation Plan-VII

The net assets of the plan as at March 31, 2024 were Rs. 28 million compared to Rs. 25 million at June 30, 2023. The plan provided a return of 17.46% during the nine months compared to the benchmark return of 13.89%.

Meezan Strategic Allocation Fund -III

Meezan Capital Preservation Plan-IX

The net assets of the plan as at March 31, 2024 were Rs. 244 million compared to Rs. 237 million at June 30, 2023. The plan provided a return of 26.35% during the nine months compared to the benchmark return was 23.73%.

Out look

The stock market has demonstrated impressive performance during the first nine months of FY24 driven by robust foreign buying in the wake of a successful IMF reviews, strong corporate profitability and attractive valuations. Despite elevated interest rates, the equity market continues to be attractive, trading at lower multiples than during the FY09 crisis. Valuations continue to remain historically appealing, with the market trading at a forward P/E ratio of approximately 4.1x compared to its long-term average P/E of 8.0x, with dividend yield of 9.3%, while selected blue chip stocks are offering dividend yield in excess of 15%.

The stock market is anticipated to continue its upward momentum, driven by various factors expected in the forthcoming period. Firstly, inflation rate has been on downward trajectory from its recent peak and interest rate is also expected to decline gradually which will bring much needed liquidity into equities. Moreover, after reaching a staff-level agreement with IMF on the final review of the USD 3 billion Stand-By Arrangement (SBA), the government plans to secure a new long-term IMF program to repay its loans and strengthen its forex reserves. The approval of the new program is expected to pave the way for accessing funds from bilateral, multilateral, and other sources. Furthermore, the government's commitment to structural reforms for resolving the circular debt issue, adds another layer of confidence in the equity market's potential.

On fixed income side, policy rate is expected to decline from the second half of calendar year 2024 due to reduced inflationary pressure. Fixed Income funds are well positioned to absorb any change in the policy rate and continue to provide attractive returns in high interest rate environment. However, given the high financing costs we may witness a decline in spreads offered by corporates which may lead to a reduction in borrowing rates. Moreover, Pakistan's Euro Bonds experienced substantial gains during nine months of FY24. The bonds prices are expected to continue its upward trend assuming that Pakistan remains committed to reforms suggested by the IMF. Going forward, the favorable pricing of the international sukuk opens up a much-needed avenue for Pakistan to tap international bond markets for financing, which were largely shut off due to abnormally elevated yields in the past.

Acknowledgement

We take this opportunity to thank our valued investors for reposing their faith in Al Meezan Investments, the largest asset management company in Pakistan. We also thank the regulator, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and our Trustee, the Central Depository Company of Pakistan, for their support. Likewise, we would like to thank the members of the Shariah Supervisory Board of Meezan Bank for their continued assistance and support on Shariah aspects of fund management.

For and on behalf of the Board;

Chief Executive Officer
Date: April 15, 2024

Director



Al Meezan
Investment Management Ltd.

ڈائریکٹرز رپورٹ منجمنٹ کمپنی کے زیر انتظام فنڈز



المیزان انویسٹمنٹ منجمنٹ لمیٹڈ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 31 مارچ 2024 کو ختم ہونے والے نو ماہ کے لیے درج ذیل اوپن اینڈ فنڈز اور واسطی پنشن اسکیم کے مالیاتی گوشوارے پیش کرتے ہوئے اظہار مسرت کرتا ہے۔

مٹی مارکیٹ فنڈ

میزان روزانہ آمدنی فنڈ

میزان کیش فنڈ

آگم فنڈز

میزان اسلامک آگم فنڈ

میزان سوورن فنڈ

میزان ڈیپ آگم فنڈ

ایس ای سی پی کے 2022 کے سرکلر نمبر 3 کے مطابق شریعہ موافق لکسڈ ریٹ / ریٹرن یا اوپن اینڈ CIS

میزان لکسڈ فرم فنڈ

ایکوٹیٹی فنڈز

میزان اسلامک فنڈ

المیزان میوچل فنڈ

کے ایس ای میزان انڈیکس فنڈ

میزان ڈیڈ ویٹھڈ ایکویٹی فنڈ

میزان انرجی فنڈ

پنشن فنڈ

میزان تحفظ پنشن فنڈ

میزان GOKR پنشن فنڈ

ہیلتھ فنڈ

میزان ہیلتھ فنڈ

ایس ایٹ ایلیکشن فنڈ

میزان ایس ایٹ ایلیکشن فنڈ

کموڈٹی فنڈ

میزان گولڈ فنڈ

ایکسیج ٹریڈ فنڈ

میزان پاکستان ایکسیج ٹریڈ فنڈ

فنڈ آف فنڈز

میزان فنڈ آف پائنگ فنڈ آف فنڈز

میزان اسٹریٹجک ایلیکشن فنڈ

میزان اسٹریٹجک ایلیکشن فنڈ II

میزان اسٹریٹجک ایلیکشن فنڈ III

اقتصادی جائزہ

جولائی 2023 میں آئی ایم ایف کے مختصر مدتی ایس بی اے پروگرام کے آغاز کے بعد مالی سال 24 کے نومبھوں کے دوران پاکستان کی مصیبت میں نمایاں بحالی دیکھی گئی۔ آئی ایم ایف سے 1.2 ارب امریکی ڈالر کی پہلی قسط کی وصولی نے سعودی عرب سے 2 ارب امریکی ڈالر اور متحدہ عرب امارات سے 1 ارب امریکی ڈالر کی زیر التوا دو طرفہ امداد کے لیے راہ ہموار کر دی۔ اس کے نتیجے میں بینک دولت پاکستان کے غیر ملکی زرمبادلہ ذخائر مئی 2023 میں 4 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر مارچ 2024 تک 8 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ ہو گئے۔ آئی ایم ایف نے 1.1 ارب امریکی ڈالر کی حتمی قسط کے لیے اسٹاف لیول معاہدے کی بھی منظوری دی، جو آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد جلد ہی موصول ہو جائے گی۔ حکومت، قرضوں کی ادائیگی اور اپنے غیر ملکی زرمبادلہ ذخائر کو مضبوط کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نئے طویل مدتی پروگرام کو حتمی شکل دینے کا بھی منصوبہ بنا رہی ہے۔

مالی سال 24 کے آٹھ ماہ کے دوران صرف 1 ارب امریکی ڈالر کے خسارے کے ساتھ، پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں اس عرصے کے دوران بہتری آتی رہی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت میں 3.8 ارب امریکی ڈالر کے مقابلے میں 7.4 فی صد سالانہ کی متاثر کن کمی ہے۔ اس کی وجہ ایشیا کی برآمدات کا سالانہ 10 فی صد اضافے سے 20.5 ارب امریکی ڈالر مالیت تک بڑھنا اور ایشیا کی درآمدات کا سالانہ 9 فی صد کمی سے 13.4 ارب امریکی ڈالر کی مالیت تک گرتا تھا۔ اس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ سالانہ بنیاد پر 28 فی صد کم ہو کر 13.5 ارب امریکی ڈالر رہ گیا۔ اس عرصے کے دوران سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر کی مالیت تقریباً بغیر کمی رو بہ بدل کے 18 ارب امریکی ڈالر سالانہ رہی۔

قاریکس مارکیٹ میں سٹہ بازی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف حکام کے کریک ڈاؤن نے انٹرنیٹ بینک اور اوپن مارکیٹ شرح تبادلہ کے درمیان بڑھتے فرق کو روکنے میں مدد دی۔ انٹرنیٹ بینک روپیہ امریکی ڈالر شرح تبادلہ جون 2023 میں 285.99 سے بڑھ کر 31 مارچ 2024 کو 277.94 ہو گئی، جب کہ اس عرصے کے دوران کم ترین شرح تبادلہ 307.10 کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی۔

نوماء کی مدت کے اواخر میں منگائی میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ مئی 2023 میں 38 فی صد کی حالیہ بلند ترین سطح سے کم ہو کر، مارچ 2024 کے دوران پیشکش کنزرویٹو پراس انڈیکس (سی بی آئی) 20.7 فی صد کی سطح پر آ گیا۔ مالی سال 24 کے نومبھوں کے دوران ہیڈ لائن افرات زر کی اوسط شرح 27 فی صد رہی، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً اسی سطح کے آس پاس ہے۔ خورداک اور آمدورفت کے اشاریوں میں استعمال پسند افرات زر نے ہاؤسنگ اور یوٹیلٹی میں اضافے کے اثر کو زائل کیا۔ موخر الذکر اضافہ کی وجہ اسی مدت کے دوران صارف گیس نرخوں میں دوسرے بڑے اضافے ہے۔

مالیاتی محاذ پر، پاکستان نے مالی سال 24 کی پہلی ششماہی کے لیے 2.4 ٹریلین روپے یا پتی ڈی پی کا 2.3 فی صد بجٹ خسارہ اور جی ڈی پی کا 1.7 فی صد بنیادی سرپلس ریکارڈ کیا، جو کہ مالی سال 24 کے لیے آئی ایم ایف کے اہداف کے مطابق ہے۔ معاشی ست روی کے باوجود گیس محصولات متاثر کن طور پر 30 فی صد سالانہ اضافے سے 3.8 ٹریلین روپے ہو گئے۔

بہتر زرعی پیداوار اور امکانات کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر صنعتی پیداوار (LSM) اور سروسز، دونوں سیکٹرز میں بتدریج بحالی اور گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران کم پیداواری اعداد و شمار کے باعث بینک دولت پاکستان کو 2 تا 3 فی صد کے درمیان حتمی معاشی نمو کی توقع ہے، جب کہ آئی ایم ایف نے مالی سال 24 کے دوران پاکستان کے لیے 2 فی صد معاشی نمو کی پیش گوئی کی ہے۔

دوسری پیش رفت میں، حبیب بینک لیٹنڈ کے سابق صدر جناب محمد اورنگزیب کو نئی حکومت میں وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے۔ مارکیٹ کی طرف سے ان کے انتخاب کو مثبت طور پر پذیرائی ملی ہے، کیونکہ ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ایک نئے طویل المدتی آئی ایم ایف پروگرام پر موثر طریقے سے مذاکرات کریں گے۔

بازار زر کا جائزہ

مالی سال 24 کے ابتدائی نوماء کے دوران، افرات زر کے دہاؤ کی وجہ سے مرکزی بینک نے پالیسی ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اگرچہ، مارکیٹ مارچ 2024 کے زری پالیسی اجلاس میں شرح میں کمی کی توقع کر رہی تھی، جو بینکنگ مارکیٹ میں شرح منافع میں کمی سے بھی واضح تھی۔ تاہم، اسٹیٹ بینک کی جانب سے فیصلے میں پالیسی ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کیے جانے کے بعد، شرح منافع میں قدرے اضافہ ہوا۔ سیالیت کے محاذ پر، اسٹیٹ بینک کی جانب سے باقاعدہ مختصر مدت اور درمیانی مدت کے اوپن مارکیٹ آپریشنز (او ایم او) کی وجہ سے بازار زر مستحکم رہی، یہی وجہ ہے کہ شرحیں ڈسکاؤنٹ ریٹ سے نیچے رہیں۔

بازار حصص کا جائزہ

مالی سال '24 کے ابتدائی نو ماہ کے دوران، بازار حصص نے 2016 کے بعد سے اپنی سب سے بڑی تیزی دیکھی، جس دوران KMI-30 انڈیکس 58.8 فیصد اضافے کے ساتھ 112,364 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسی طرح KSE-100 انڈیکس اس عرصے کے دوران 61.6 فیصد بڑھ کر 67,005 پوائنٹس پر بند ہوا۔ زبردست تیزی کی وجہ بنیادی طور پر ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام کا آغاز تھا جو جون 2023 کے آخر میں شروع ہوا تھا (اپریل 2024 تک تین ارب ڈالر مالیت اور نو ماہ دوران یہ کا اسٹینڈ ہائے آرٹیکلٹ SBA پروگرام)۔

اس مدت کے دوران، بازار میں تیزی کے دوران کو شرح سود میں کٹوتیوں کے آغاز کی بڑھتی ہوئی توقعات سے بھی مدد ملی، کیوں کہ افراط زر اپنی عروج کو چھو چکی ہے۔ تاہم، مرکزی بینک نے مالی سال '24 کے ابتدائی نو ماہ کے دوران پالیسی ریٹ کو 22 فی صد پر برقرار رکھا، باوجود اس کے کہ اس مدت کے دوران ٹریڈری بلز پر شرح منافع میں تقریباً 150 بیس پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ مارچ 2024 کے زری پالیسی اجلاس میں، بینک دولت پاکستان نے محتاط موقف اپنایا اور مہنگائی میں نمایاں کمی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو اعتدال میں لانے اور حتمی قسط کے لیے IMF کے ساتھ کامیاب اسٹاف لیول معاہدے کے باوجود مسلسل ساتویں اجلاس میں پالیسی ریٹ کو 22 فی صد پر برقرار رکھا۔

اس عرصے کے دوران ایک اہم پیش رفت عام انتخابات تھے جو 8 فروری 2024 کو منعقد ہوئے۔ مسلم لیگ ن کی قیادت میں نئی حکومت کے قیام سے مارکیٹ پر مثبت اثرات مرتب ہونے کی توقع ہے۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی اس عرصے کے دوران ان کی زیادہ سرگرمی اور شرکت سے بھی ظاہر ہوئی کیونکہ KSE100 انڈیکس کا اوسط یومیہ حجم تین گنا بڑھ کر 235 ملین حصص اوسط یومیہ تک پہنچ گیا، جو پچھلے سال کی اسی مدت میں 96 ملین حصص اوسط یومیہ تھا۔ دریں اثنا، KMI-30 انڈیکس کا اوسط یومیہ حجم 58 ملین حصص سے سالانہ بنیاد پر 91 فی صد بڑھ کر اس عرصے کے دوران 111 ملین حصص تک پہنچ گیا۔

آئی ایم ایف پروگرام کے مثبت اثرات کے نتیجے میں بین الاقوامی ریٹنگ اداروں نے اس عرصے کے دوران پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو بہتر کیا۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی سٹینڈارڈ اینڈ پوئرز نے جولائی 2023 میں پاکستان کو CCC میں اپ گریڈ کیا تھا۔ دسمبر 2023 میں اس کی دوبارہ توثیق کی گئی۔ ستمبر-دسمبر کی مدت کے کارپوریٹ منافع مضبوط رہے ہیں، جس کے باعث KSE-100 کے سرمایہ منافع میں 45 فی صد سالانہ اضافہ ہوا، جسے اس بات سے بھی تقویت ملی کہ سخت معاشی پس منظر کے باوجود موسمی سیکٹرز کا منافع کا منافع بلند سطح پر برقرار رہا جب کہ غیر موسمی سیکٹرز جیسے انرجی چین اور بینکاری شعبے نے مضبوط سہارا برقرار رکھا۔

عالمی محاذ پر، امریکا کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو نے مارچ 2024 کے اجلاس تک شرح سود کو 5.25-5.50 فی صد کی 22 سال کی بلند ترین سطح پر رکھا، جو جولائی 2023 سے مسلسل پانچ اجلاسوں میں شرح سود کو اسی سطح پر برقرار رکھتا ہوا آرہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیڈ نے 2024 میں شرح سود میں تین کٹوتیوں کا امکان ظاہر کیا۔ بہت سے عالمی انڈیکس نو ماہ کی مدت کے دوران اپنی ہفتوں بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ اس مدت کے دوران S&P 500 انڈیکس میں 18 فی صد اضافہ ہوا، جبکہ MSCI ایرجنگ مارکیٹ انڈیکس میں 5.1 فی صد اضافہ ہوا۔ امریکا میں، شیئنگ مارک 10 سال کی مدت کے باہر شرح منافع جنوری 2024 میں 3.9 فی صد کی حالیہ کم ترین سطح سے بڑھ کر 4.2 فی صد ہو گئی۔

انڈیکس میں بڑے حصہ دار:

کلیدی شعبوں میں ریٹائرمنٹ، پاور جنریشن اور کیبل اینڈ الیکٹریک گڈز کے شعبے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ مالی سال '24 کی ابتدائی نو ماہ کے دوران KMI-30 انڈیکس میں سب سے زیادہ حصہ ڈالنے والے حصص یہ تھے:

Major positive contributors to the Index	Contribution to KMI-30 (Points)	Total Return (%)
Meezan Bank Ltd	6,265	147.33
Hub Power Co Ltd	5,167	74.29
Engro Fertilizers Ltd	4,689	77.78
Pakistan Petroleum Ltd	3,210	79.49


دوسری طرف، ٹیکنالوجی، ادویات سازی اور کاغذ اور گت تیار کرنے والے شعبہ جات کی کارکردگی بدترین رہی۔ اس عرصے کے دوران، درج ذیل نے کے ایم آئی 30-انڈیکس کو سست روی کا شکار کیا:

Major under performers to the Index	Contribution to KMI-30 (Points)	Total Return (%)
Systems Ltd	-378	-4.45
Lotte Chemical Pakistan Ltd	-253	-29.11
TPL Properties Ltd	-31	-10.51
Ghani Global Holdings Ltd	22	0.81

حصص میں بہاؤ

مالی سال 24 کے نومبئوں کے دوران ایک طویل عرصے کے بعد غیر ملکیوں نے تقریباً 74.88 ملین امریکی ڈالر کی مجموعی خالص خریداری کی۔ غیر ملکیوں کی طرف سے جن شعبہ جات میں خالص خریداری کی گئی ان اہم شعبوں میں بینک (29.2 ملین امریکی ڈالر)، بجلی کی پیداوار (10.9 ملین امریکی ڈالر) اور سینٹ (10.4 ملین امریکی ڈالر) تھے۔ مقامی محاذ پر، پیسہ کمپنیاں 120.9 ملین امریکی ڈالر کی خالص خریدار تھیں جن میں سرفہرست ریاست کے زیر انتظام ادارے رہے۔ جبکہ بینک/ غیر ترقیاتی مالیاتی ادارے (112.59 ملین امریکی ڈالر) اور میوچل فنڈز (54.6 ملین ڈالر) بازار حصص میں سب سے زیادہ خالص فروخت کنندگان کے طور پر سامنے آئے۔


درج ذیل گراف مالی سال 24 کے ابتدائی نو ماہ کے دوران KMI-30 انڈیکس میں اتار چڑھاؤ اور اس کا باعث بننے والے اہم عناصر کا احاطہ کرتا ہے:



میوچل فنڈز انڈسٹری کا جائزہ


مالی سال 24 کے ابتدائی نو ماہ کے دوران، میوچل فنڈ انڈسٹری کے زیر انتظام اثاثہ جات کی مالیت 46.3 فیصد بڑھ کر 2,388 ارب روپے ہو گئی۔ شریعہ موافق زیر انتظام اثاثہ جات 56.05 فیصد بڑھ کر 1,160 ارب روپے ہو گئے، جس نے مجموعی طور پر میوچل فنڈ انڈسٹری میں شریعہ موافق فنڈز کا حصہ 48.6 فیصد تک پہنچا دیا۔ میوچل فنڈز انڈسٹری میں الہیز ان کا مارکیٹ شیئر 19.3 فی صد رہا جبکہ شریعہ موافق فنڈز میں یہ 39.8 فی صد ہے، جو فروری 2024 کے اختتام تک انڈسٹری میں سب سے زیادہ ہے۔ فنڈز کے زمرے میں، میزان تحفظ فنڈز کا مارکیٹ شیئر 33.7 فی صد تھا جب کہ شریعہ موافق فنڈز میں، یہ 51.3 فی صد ہے، جو فروری 2024 کے اختتام تک اس انڈسٹری میں سب سے زیادہ ہے۔

الہیز ان کا انڈسٹری میں مارکیٹ شیئر





انڈسٹری میں میزبان تحفظ فنڈز کا مارکیٹ شیئر



کارکردگی کا جائزہ (فنڈز)

درج ذیل جدول میں ہمارے زیر انتظام فنڈز کی مالی سال 24 کے ابتدائی نو ماہ کی کارکردگی کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے:

Funds	Type	Net Assets Ru. In millions	Growth In Net Assets for 9MFY24 (%)	Returns for 9MFY24 (%)	Benchmark for 9MFY24 [%]
Money Market/Fixed Income Funds					
Meezan Karama Ahsan Fund (HKAF)	Money Market	114,850	20	21.05	9.99
Meezan Cash Fund (MCF)	Money Market	60,949	130	20.67	9.80
Meezan Daily Income Fund (MDF-1)	Income	150,302	65	21.45	9.79
Meezan Daily Income Fund - HRMF	Income	9,788	76	19.51	9.79
Meezan Sehi Account Plan (MDF-SEH)	Income	79	1,813	19.72	9.79
Meezan Musafa Plan-C (MDF-MHF-1)*	Income	2,135	-	21.91	30.12
Meezan Sovereign Fund (MDF)	Income	51,596	534	21.89	36.74
MTF-Meezan Paidaar Humala Plan-IV	Open End Islamic O/S as per SECP's Circular No.3 of 2022	4,887	7	19.05	6.41
MTF-Meezan Paidaar Humala Plan-V*		8,157	-	22.45	9.18
MTF-Meezan Paidaar Humala Plan-VI		1,048	5	20.33	6.75
MTF-Meezan Paidaar Humala Plan-VII		893	51	21.18	7.32
Meezan Islamic Income Fund (MDF)	Income	14,016	30	20.43	9.79
Equity Funds					
Meezan Islamic Fund (MIF)	Equity	30,710	21	55.57	58.82
Al Meezan Mutual Fund (AMMF)	Equity	4,938	57	58.30	58.82
HQE Meezan Index Fund (HMIF)	Equity	3,330	39	36.32	36.82
Meezan Diversified Equity Fund (MDFEF)	Equity	300	-11	58.54	58.82
Meezan Energy Fund (MEF)	Equity	1,184	162	70.47	58.82
Pension Fund Scheme					
Meezan Tahaffuz Pension Fund	Pension Fund Scheme				
Equity sub Fund		6,281	31	66.87	
Fixed sub Fund		6,180	17	35.10	
Money Market sub Fund		10,908	36	21.09	
Gold Sub Fund		471	13	4.85	
Meezan GORP Pension Fund					
Money Market sub Fund*	GORP Pension Fund	74	-	20.77	
Balanced Fund					
Meezan Balanced Fund (MBF)	Balanced	2,180	28	34.08	28.91
Asset Allocation Fund					
Meezan Asset Allocation Fund (MAAF)	Asset Allocation	307	-32	47.66	48.32
Commodity Fund					
Meezan Gold Fund (MGF)	Commodity	1,601	16	4.01	4.82
Exchange Traded					
Meezan Polistar Exchange Traded Fund (KZNF-ETF)	Exchange Traded	78	12	64.85	71.03
Fund of Funds					
Meezan Financial Planning Fund of Fund					
Aggressive	Fund of Fund	74	16	47.06	45.18
Moderate		70	12	35.16	34.69
Conservative		55	-6	25.29	22.91
Very Conservative Allocation Plan (MFPP-V, Con)*		0.46	-	20.69	34.78
MAAF-I		87	22	38.47	34.06
Meezan Strategic Allocation Fund					
MSAP-I	Fund of Fund	135	-29	37.45	39.32
MSAP-II		77	-52	37.53	39.00
MSAP-III		125	-4	37.58	39.53
MSAP-IV		63	-17	37.34	33.28
MSAP-V		96	17	35.10	31.73
Meezan Strategic Allocation Fund - II					
MSAP-II - MFPP-IV	Fund of Fund	282	19	25.12	23.65
MSAP-II - MFPP-VII		28	13	17.46	13.89
Meezan Strategic Allocation Fund - III					
MSAP-II - MFPP-IX	Fund of Fund	744	9	36.45	35.74

* Launched MDF-MHF-1 (Aug 19, 2023), HRMF-V (Jan 30, 2024), MFPP-V, Con (Aug 22, 2023), HQGP-MHGF (Dec 14, 2023)

کارکردگی کا جائزہ (فٹرز) میزان روزانہ آمدنی فنڈ

میزان روزانہ آمدنی فنڈ (MRAF) کے 30 جون 2023 کو 96,006 ملین روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثے 114,830 ملین روپے تھے، جو کہ 20 فی صد کا اضافہ ہے۔ 31 مارچ 2024 کو فی ہونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.00 روپے تھی۔ زیر جائزہ عرصہ کے دوران فنڈ نے 9.96 فی صد کے نیٹ مارک سالانہ منافع کے مقابلے میں 21.05 فی صد سالانہ منافع دیا۔ نومبر کے اختتام پر، فنڈ کا 25 فی صد نرم ڈپازٹ ری سیٹس میں، 24 فی صد اسلامی کارپوریٹ سٹاک میں، اور خالص اثاثوں کا 49 فی صد اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی وٹڈوز اور 2 فی صد دیگر میں رکھا ہوا تھا۔

میزان کیش فنڈ

میزان کیش فنڈ (MCF) کے 30 جون 2023 کو 25,882 ملین روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثے 60,989 ملین روپے تھے، جو کہ 136 فی صد کا اضافہ ہے۔ فی ہونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 51.0165 روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو 58.9612 روپے تھی، جو کہ 9.80 فی صد نیٹ مارک سالانہ منافع کے مقابلے میں 20.67 فی صد سالانہ منافع بنتا ہے۔ نومبر کے اختتام پر، فنڈ کا 7 فی صد اسلامی کارپوریٹ سٹاک میں، 8 فی صد نرم ڈپازٹ ری سیٹس میں اور کل اثاثوں کا 83 فی صد اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی وٹڈوز میں اور 2 فی صد دیگر میں رکھا ہوا تھا۔

میزان اسلامک آفم فنڈ

میزان اسلامک آفم فنڈ (MIIF) کے 30 جون 2023 کو 11,474 ملین روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثے 14,926 ملین روپے تھے، جو کہ 30 فی صد کا اضافہ ہے۔ فی ہونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 51.6491 روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو 59.6008 روپے تھی، جو کہ 9.79 فی صد نیٹ مارک سالانہ منافع کے مقابلے میں 20.43 فی صد سالانہ منافع بنتا ہے۔ نومبر کے اختتام پر، فنڈ کا 11 فی صد اسلامی کارپوریٹ سٹاک میں، 53 فی صد GoP اجارہ / گورنمنٹ گرانٹیڈ سٹاک میں، خالص اثاثہ جات کا 32 فی صد اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی وٹڈوز اور 4 فی صد دیگر میں رکھا ہوا تھا۔

میزان ساورن فنڈ

میزان ساورن فنڈ (MSF) کے 30 جون 2023 کو 8,133 ملین روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثے 51,596 ملین روپے تھے، جو کہ 534 فی صد کا اضافہ ہے۔ فی ہونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 52.1375 روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو 60.7350 روپے تھی، جو کہ 18.74 فی صد نیٹ مارک سالانہ منافع کے مقابلے میں 21.89 فی صد سالانہ منافع بنتا ہے۔ نومبر کے اختتام پر، فنڈ کی 96 فی صد سرمایہ کاری جی او پی اجارہ / گورنمنٹ گرانٹیڈ سٹاک اور ایک فی صد اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی وٹڈوز میں اور 2 فی صد دیگر میں رکھے ہوئے تھے۔

میزان ڈیپ لی آفم فنڈ

میزان ڈیپ لی آفم فنڈ - MDIP-1

پلان کے 30 جون 2023 کو 91,147 ملین روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثے 150,162 ملین روپے تھے، جو کہ 65 فی صد کا اضافہ ہے۔ 31 مارچ 2024 کو فی ہونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.00 روپے تھی۔ نومبر کے دوران پلان نے 9.79 فی صد نیٹ مارک سالانہ منافع کے مقابلے میں 21.45 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا۔ نومبر کے اختتام پر، فنڈ کا 13 فی صد نرم ڈپازٹ ری سیٹس میں، 8 فی صد اسلامی کارپوریٹ سٹاک میں، 38 فی صد جی او پی اجارہ / گورنمنٹ گرانٹیڈ سٹاک میں، 40 فی صد خالص اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی وٹڈوز میں اور 3 فی صد دیگر میں رکھا ہوا تھا۔

میزان ڈیپ لی آفم فنڈ (میزان ماہانہ منافع پلان)

پلان کے 30 جون 2023 کو 5,543 ملین روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثے 9,783 ملین روپے تھے، جو کہ 76 فی صد کا اضافہ ہے۔ 31 مارچ 2024 کو فی ہونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 50.00 روپے تھی۔ نومبر کے دوران پلان نے 9.79 فی صد نیٹ مارک سالانہ منافع کے مقابلے میں 19.51 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا۔ نومبر کے اختتام پر، 99 فی صد خالص اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی وٹڈوز میں اور ایک فی صد دیگر میں رکھے ہوئے تھے۔

میزان ڈیپ لی آفم فنڈ (میزان منافع پلان)

میزان منافع پلان کا آغاز 29 اگست 2023 کو کیا گیا۔ پلان کے 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثے 2,133 ملین روپے تھے۔ 31 مارچ 2024 کو فی ہونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 56.4543 روپے تھی۔ اس عرصہ کے دوران پلان نے 10.12 فی صد نیٹ مارک سالانہ منافع کے مقابلے میں 21.91 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا۔ نومبر کے اختتام پر، 75 فی صد خالص اثاثے جی او پی اجارہ / گورنمنٹ گرانٹیڈ سٹاک میں اور 25 فی صد خالص اثاثہ جات اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی وٹڈوز میں رکھے ہوئے تھے۔



میزان کھل اکاؤنٹ پلان

پلان کے 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثے 79 ملین روپے تھے۔ 31 مارچ 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 57.5779 روپے تھی۔ نومبر کے دوران پلان نے 9.79 فی صد شیئہ مارک سالانہ منافع کے مقابلے میں 19.72 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا۔ نومبر کے اختتام پر، 99 فی صد خالص اثاثے اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی وڈوز میں اور ایک فی صد دیگر میں رکھے ہوئے تھے۔

میزان فیکسڈ ٹرم فنڈ

میزان پائیدار منافع پلان-IV

پلان کے 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثے 4,897 ملین روپے تھے۔ 31 مارچ 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 57.5197 روپے تھی۔ زبر جائزہ عرصہ کے دوران پلان نے 6.41 فی صد شیئہ مارک سالانہ منافع کے مقابلے میں 19.65 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا۔ نومبر کے اختتام پر، 92 فی صد خالص اثاثے جی او بی اجارہ سکوک، ایک فی صد اثاثہ جات اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی وڈوز میں رکھے ہوئے تھے جب کہ 7 فی صد اثاثہ جات کا تعلق جی او بی اجارہ سکوک سے قاتلی وصول منافع سے ہے۔

میزان پائیدار منافع پلان-V

میزان پائیدار منافع پلان-V کو 30 جنوری 2024 کو دوبارہ لانچ کیا گیا ہے۔ پلان کے 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثے 8,357 ملین روپے تھے۔ 31 مارچ 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 51.8762 روپے تھی۔ پہلی ششماہی کے دوران پلان نے 9.18 فی صد شیئہ مارک سالانہ منافع کے مقابلے میں 22.45 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا۔ زبر جائزہ عرصہ کے اختتام پر، 94 فی صد خالص اثاثہ جات جی او بی اجارہ سکوک، ایک فی صد اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی وڈوز میں رکھے ہوئے تھے جب کہ باقی فی صد کا تعلق جی او بی اجارہ سکوک سے قاتلی وصول منافع سے ہے۔

میزان پائیدار منافع پلان-VI

پلان کے 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثے 1,043 ملین روپے تھے۔ 31 مارچ 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 57.7764 روپے تھی۔ نومبر کے دوران پلان نے 6.75 فی صد شیئہ مارک سالانہ منافع کے مقابلے میں 20.33 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا۔ نومبر کے اختتام پر، 87 فی صد خالص اثاثے کارپوریٹ سکوک، سات فی صد اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی وڈوز اور دیگر میں رکھے ہوئے تھے۔

میزان پائیدار منافع پلان-VII

میزان پائیدار منافع پلان-VII کا آغاز 11 جولائی 2023 کو کیا گیا۔ پلان کے 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثے 853 ملین روپے تھے۔ 31 مارچ 2024 کو فی یونٹ خالص اثاثہ قیمت (NAV) 57.6600 روپے تھی۔ نومبر کے دوران پلان نے 7.52 فی صد شیئہ مارک سالانہ منافع کے مقابلے میں 21.18 فی صد سالانہ منافع فراہم کیا۔ نومبر کے اختتام پر، 87 فی صد خالص اثاثے کارپوریٹ سکوک، 10 فی صد اسلامی بینکوں یا اسلامی بینکوں کی وڈوز اور دیگر میں رکھے ہوئے تھے۔

میزان اسلامک فنڈ

میزان اسلامک فنڈ (MIF) کے 30 جون 2023 کو 17,155 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 20,730 ملین روپے تھی، جو کہ 21 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2023 کو 54.8025 روپے فی یونٹ خالص قدر و قیمت (NAV) کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو فی یونٹ قیمت 85.2546 روپے تھی، جو کہ نومبر کے دوران شیئہ مارک کے ایس ای میزبان انڈیکس (KMI-30) کے 58.82 فی صد منافع کے مقابلے میں 55.57 فی صد منافع بنا ہے۔

المیزان میوچل فنڈ

المیزان میوچل فنڈ (AMMF) کے 30 جون 2023 کو 3,153 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 4,938 ملین روپے تھی، جو کہ 57 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2023 کو 15.6760 روپے فی یونٹ خالص قدر و قیمت (NAV) کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو فی یونٹ قیمت 24.8156 روپے تھی، جو کہ نومبر کے دوران شیئہ مارک کے ایس ای میزبان انڈیکس (30-KM) کے 58.82 فی صد منافع کے مقابلے میں 58.30 فی صد منافع بنا ہے۔

کے ایس ای میزبان انڈیکس فنڈ

کے ایس ای میزبان انڈیکس فنڈ (KMIF) کے 30 جون 2023 کو 2,585 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 3,590 ملین روپے تھی، جو کہ 39 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2023 کو 64.9320 روپے فی یونٹ خالص قدر و قیمت (NAV) کے مقابلے میں 31 مارچ



2024 کوئی پونٹ قیمت 101.5044 روپے تھی، جو کہ نومبر کے دوران، شیخ مارک کے ایس ای میزان انڈیکس (KMI-30) کے 48.82 فی صد منافع کے مقابلے میں 56.32 فی صد منافع بنا ہے۔

میزان ڈیڈیکٹیوڈ ایکویٹی فنڈ

میزان ڈیڈیکٹیوڈ ایکویٹی فنڈ (MDEθ) کے 30 جون 2023 کو 406 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 360 ملین روپے تھی، جو کہ 11 فی صد کی کمی ہے۔ 30 جون 2023 کو 39.9919 روپے فی پونٹ خالص قدر و قیمت (NAV) کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کوئی پونٹ قیمت 63.2427 روپے تھی، جو کہ نومبر کے دوران شیخ مارک کے ایس ای میزان انڈیکس (KMI-30) کے 58.82 فی صد منافع کے مقابلے میں 58.14 فی صد منافع بنا ہے۔

میزان انرجی فنڈ

میزان انرجی فنڈ (MEF) کے 30 جون 2023 کو 452 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 1,184 ملین روپے تھی، جو کہ 162 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2023 کو 30.8497 روپے فی پونٹ خالص قدر و قیمت (NAV) کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کوئی پونٹ قیمت 52.5891 روپے تھی، جو کہ نومبر کے دوران شیخ مارک کے ایس ای میزان انڈیکس (KMI-30) کے 58.82 فی صد منافع کے مقابلے میں 70.47 فی صد منافع بنا ہے۔

میزان تحفظ پینشن فنڈ (MTPF)

میزان تحفظ پینشن فنڈ (MTPF) چار ذیلی فنڈز بنام ایکویٹی ذیلی فنڈ، ڈیٹ ذیلی فنڈ، منی مارکیٹ ذیلی فنڈ اور گولڈ ذیلی فنڈ پر مشتمل ہے۔ 31 مارچ 2024 کو ختم ہونے والے نومبر کے دوران ایکویٹی ذیلی فنڈ نے 60.19 فی صد کا منافع دیا، اور گولڈ ذیلی فنڈ نے 4.85 فی صد منافع دیا۔ جبکہ ڈیٹ اور منی مارکیٹ فنڈز نے بالترتیب 20.10 فی صد اور 21.69 فی صد کا منافع دیا۔ ان میں سے ہر ایک فنڈ کی کارکردگی کا جائزہ ذیل میں دیا گیا ہے:

ایکویٹی ذیلی فنڈ

اس ذیلی فنڈ کے 30 جون 2023 کو 3,458 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 4,517 ملین روپے ہو گئی جو کہ 31 فی صد اضافہ ہے۔ 30 جون 2023 کو پلان کی فی پونٹ خالص قدر و قیمت 486.545 روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کوئی پونٹ قدر و قیمت 779.3997 روپے ہو گئی۔

ڈیٹ ذیلی فنڈ

اس ذیلی فنڈ کے 30 جون 2023 کو 5,252 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 6,160 ملین روپے ہو گئی جو کہ 17 فی صد اضافہ ہے۔ 30 جون 2023 کو پلان کی فی پونٹ خالص قدر و قیمت 348.5006 روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کوئی پونٹ قدر و قیمت 401.2863 روپے ہو گئی۔

منی مارکیٹ ذیلی فنڈ

اس ذیلی فنڈ کے 30 جون 2023 کو 8,031 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 10,908 ملین روپے ہو گئی جو کہ 36 فی صد اضافہ ہے۔ 30 جون 2023 کو پلان کی فی پونٹ خالص قدر و قیمت 339.5715 روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کوئی پونٹ قدر و قیمت 395.0721 روپے تھی۔

گولڈ ذیلی فنڈ

اس ذیلی فنڈ کے 30 جون 2023 کو 416 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 471 ملین روپے ہو گئی جو کہ 13 فی صد اضافہ ہے۔ 30 جون 2023 کو پلان کی فی پونٹ خالص قدر و قیمت 292.6303 روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کوئی پونٹ قدر و قیمت 306.8230 روپے ہو گئی۔

میزان جی او کے پی پینشن فنڈ

میزان جی او کے پی پینشن فنڈ (MGOKPPF) کا آغاز 14 دسمبر 2023 کو منی مارکیٹ ذیلی فنڈ کے نام سے کیا گیا۔ 31 مارچ 2024 کو ختم ہونے والے نومبر کے دوران منی مارکیٹ ذیلی فنڈ نے 20.77 فی صد کا منافع دیا۔ ہر ذیلی فنڈ کی کارکردگی ذیل میں دی گئی ہے:



منی مارکیٹ ذیلی فنڈ

اس ذیلی فنڈ کے 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 74 ملین روپے تھے۔ 14 دسمبر 2023 کو 100.00 روپے فی یونٹ خالص قدر و قیمت (NAV) کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو فی یونٹ قدر و قیمت 106.145 روپے تھی۔

میزان ہیلتھ فنڈ

میزان ہیلتھ فنڈ (MBF) کے 30 جون 2023 کو 1,689 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 2,160 ملین روپے ہو گئی جو کہ 28 فی صد اضافہ ہے۔ 30 جون 2023 کو اس کی فی یونٹ خالص قدر و قیمت 15.5966 روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو فی یونٹ قدر و قیمت 20.9115 روپے تھی، جو کہ نو ماہ کے دوران 28.91 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 34.08 فی صد منافع بناتا ہے۔

میزان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ

میزان ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ (MAAF) کے 30 جون 2023 کو 454 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 307 ملین روپے ہو گئی جو کہ 32 فی صد کمی کی ہے۔ 30 جون 2023 کو پلان کی فی یونٹ خالص قدر و قیمت 39.8599 روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو فی یونٹ قدر و قیمت 58.8579 روپے تھی، جو کہ 48.32 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 47.66 فی صد کا منافع بناتا ہے۔

میزان گولڈ فنڈ

فنڈ کے 30 جون 2023 کو 1,346 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 1,601 ملین روپے ہو گئی جو کہ 19 فی صد کا اضافہ ہے۔ 30 جون 2023 کو فی یونٹ خالص قدر و قیمت 157.4219 روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو فی یونٹ قدر و قیمت 164.5044 روپے ہو گئی، جو کہ 4.82 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 4.50 فی صد منافع بناتا ہے۔

میزان پاکستان ایکس چینج ٹریڈڈ فنڈ

میزان پاکستان ایکس چینج ٹریڈڈ فنڈ (MPETF) کے 30 جون 2023 کو 69 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات کی مالیت 78 ملین روپے ہو گئی جو کہ 12 فی صد اضافہ ہے۔ 30 جون 2023 کو فی یونٹ خالص قدر و قیمت 7.8147 روپے کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو فی یونٹ قدر و قیمت 12.8822 روپے ہو گئی، جو کہ MZNP کے شیئ مارک 71.03 فی صد منافع کے مقابلے میں 64.85 فی صد کا منافع بناتا ہے۔

میزان فنانشل پلاننگ فنڈ آف فنڈز

ایگریسیو ایلوکیشن پلان

پلان کے 30 جون 2023 کو 64 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 74 ملین روپے ہو گئے۔ پلان نے 45.10 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 42.06 فی صد منافع دیا۔

موڈریٹ ایلوکیشن پلان

پلان کے 30 جون 2023 کو 62 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 70 ملین روپے تھے۔ پلان نے نو ماہ کے دوران 34.69 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 35.16 فی صد کا منافع دیا۔

کنزروٹیو ایلوکیشن پلان

30 جون 2023 کو 59 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 55 ملین روپے ہو گئے۔ پلان نے نو ماہ کے دوران 22.91 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 25.29 فی صد منافع دیا۔

ویری کنزروٹیو ایلوکیشن پلان

یہ پلان 18 اگست 2023 کو لانچ کیا گیا تھا۔ پلان کے 31 مارچ 2024 کو 0.5 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات تھے۔ پلان نے زیر جائزہ عرصہ کے دوران 14.78 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 20.69 فی صد منافع دیا۔



میزان ایسیٹ ایلیکشن پلان - I

پلان کے 30 جون 2023 کو 71 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 87 ملین روپے ہو گئے۔ پلان نے نومبر کے دوران 34.06 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 38.47 فی صد منافع دیا۔

میزان اسٹریٹجک ایلیکشن فنڈ

میزان اسٹریٹجک ایلیکشن پلان - I

پلان کے 30 جون 2023 کو 188 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 135 ملین روپے تھے۔ پلان نے نومبر کے دوران 39.32 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 37.45 فی صد منافع دیا۔

میزان اسٹریٹجک ایلیکشن پلان - II

پلان کے 30 جون 2023 کو 160 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 77 ملین روپے تھے۔ پلان نے نومبر کے دوران 39.00 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 37.53 فی صد منافع دیا۔

میزان اسٹریٹجک ایلیکشن پلان - III

پلان کے 30 جون 2023 کو 131 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 125 ملین روپے ہو گئے۔ پلان نے نومبر کے دوران 39.53 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 37.58 فی صد منافع دیا۔

میزان اسٹریٹجک ایلیکشن پلان - IV

پلان کے 30 جون 2023 کو 77 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 63 ملین روپے تھے۔ پلان نے نومبر کے دوران 33.28 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 37.34 فی صد منافع دیا۔

میزان اسٹریٹجک ایلیکشن پلان - V

پلان کے 30 جون 2023 کو 34 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 39 ملین روپے تھے۔ پلان نے نومبر کے دوران 31.72 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 36.10 فی صد منافع دیا۔

میزان اسٹریٹجک ایلیکشن فنڈ - II

میزان کپٹل پریزرویشن پلان - IV

پلان کے 30 جون 2023 کو 237 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 282 ملین روپے تھے۔ پلان نے نومبر کے دوران 23.65 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 26.12 فی صد منافع دیا۔

میزان کپٹل پریزرویشن پلان - VII

پلان کے 30 جون 2023 کو 25 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 28 ملین روپے تھے۔ پلان نے نومبر کے دوران 13.89 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 17.46 فی صد منافع دیا۔

میزان اسٹریٹجک ایلیکشن فنڈ - III

میزان کپٹل پریزرویشن پلان - IX

پلان کے 30 جون 2023 کو 237 ملین روپے کے خالص اثاثہ جات کے مقابلے میں 31 مارچ 2024 کو خالص اثاثہ جات 244 ملین روپے ہو گئے۔ پلان نے نومبر کے دوران 23.73 فی صد شیئ مارک منافع کے مقابلے میں 26.35 فی صد منافع دیا۔

توقعات

اسٹاک مارکیٹ نے مالی سال '24 کے ابتدائی نو ماہ کے دوران، آئی ایم ایف کے کامیاب جائزوں، مضبوط کارپوریٹ منافع اور پرکشش قیمتوں کے نتیجے میں زبردست غیر ملکی خریداری کے باعث متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بلند شرح سود کے باوجود، بازار حصص مسلسل پرکشش ہے، اور مالی سال '09 کے بحران کے دوران آمدنی کے تناسب سے جن کم قیمتوں پر حصص کی لین دین ہو رہی تھی، اس وقت آمدنی کے تناسب سے اس سے بھی مزید کم قیمتوں پر حصص کی لین دین ہو رہی ہے۔ آمدنی کے تناسب سے قیمتوں کا طویل مدتی اوسط تناسب تقریباً 8 گنا کے مقابلے میں تقریباً 4.1 گنا کے قارورڈ P/E تناسب اور 9.3 فی صد کے نقد منافع معتمدہ کے باعث حصص کی قیمتیں تاریخی لحاظ سے پرکشش ہیں، جب کہ منتخب بلیو چپ حصص 15 فی صد سے زائد نقد منافع معتمدہ پیش کرتے ہیں۔

آنے والے عرصہ میں متوقع کارفرما مختلف عوامل کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان جاری رہنے کی توقع ہے۔ سب سے پہلے، افراط زر کی شرح اپنی حالیہ انتہائی بلندی سے نیچے کی طرف ہے اور شرح سود میں بھی بتدریج کمی متوقع ہے جس سے بازار حصص میں انتہائی مطلوب سیالیت آئے گی۔ مزید برآں، آئی ایم ایف کے ساتھ 3 ارب امریکی ڈالر کے اسٹینڈ بائی آرٹھیٹ (SBA) کے حتمی جائزے پر اسٹاف لیول معاہدے تک پہنچنے کے بعد، حکومت اپنے قرضوں کی ادائیگی اور اپنے غیر ملکی زرمبادلہ ذخائر کو مضبوط کرنے کے لیے ایک طویل مدتی آئی ایم ایف پروگرام حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ توقع ہے کہ نئے پروگرام کی منظوری سے دو طرفہ، کثیر جہتی اور دیگر ذرائع سے سرمایہ تک رسائی کی راہ ہموار ہوگی۔ مزید برآں، گروڈی قرض کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ساختی اصلاحات کے لیے حکومت کا عزم، بازار حصص کی کارکردگی میں اعتماد کی ایک اور تہ کا اضافہ کرتا ہے۔

گلسڈ حکم کی بات کریں تو افراط زر کے دباؤ میں کمی کی وجہ سے کیلنڈر سال 2024 کی دوسری ششماہی سے پالیسی ریٹ میں کمی متوقع ہے۔ گلسڈ آگمنٹڈ ز پالیسی ریٹ میں کمی بھی تہدیلی کو جذب کرنے اور بلند شرح سود کے ماحول میں پرکشش منافع فراہم کرنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہیں۔ تاہم، بلند مالیاتی اخراجات کے پیش نظر ہم کارپوریشن کے ذریعہ پیش کردہ اسپریڈز میں کمی دیکھ سکتے ہیں، جو قرض گیری پر شرح سود میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ مزید برآں، پاکستان کے یورو بانڈز میں مالی سال '24 کے نو ماہ کے دوران خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ توقع ہے کہ بانڈز کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری رہے گا یہ فرض کرتے ہوئے کہ پاکستان، آئی ایم ایف کی تجویز کردہ اصلاحات کو لاگو کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، بین الاقوامی صکوک کی سازگار قیمتیں پاکستان کے لیے سرمایہ کے حصول کے لیے بین الاقوامی بانڈ مارکیٹوں کو استعمال کرنے کا ایک انتہائی اہم راستہ کھولتی ہیں، جو ماضی میں غیر معمولی طور پر بلند شرح منافع کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔

اعتراف

ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گرام قدر سرمایہ کاروں سے ان کے المیزان انویسٹمنٹس پر بھروسہ کے لیے تشکر کا اظہار کرتے ہیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی ایسیٹ منجمنٹ کمپنی ہے۔ ہم ضابطہ کار، سیکورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان اور ہمارے ٹرسٹی، سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان سے بھی ان کی بھرپور اعانت و وعدہ کے لیے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ اسی طرح، میزبان بینک کے اراکین شریعہ سپروائزرزری بورڈ کا ان کے مسلسل تعاون اور فنڈ منجمنٹ کے شریعہ سے متعلق پہلوؤں پر اعانت کے لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔

برائے و بجا نام بورڈ

چیف ایگزیکٹو آفیسر

ڈائریکٹر

تاریخ 15 اپریل 2024



Contact Us

0800-HALAL(42525) | SMS "invest" to 6655
www.almeezangroup.com

We Are Available On Social Media



Al Meezan mein Itminan hai.



Download
Al Meezan Investments Mobile Application
Now!

For investment services and advice
visit any Al Meezan or Meezan Bank Branch across Pakistan



A Subsidiary of
Meezan Bank
The Premier Islamic Bank

Disclaimer: All investments in Mutual Funds and Pension Fund are subject to market risks. Past Performance is not necessarily indicative of future results. Please read the offering document to understand the investment policies, risks and tax implication involved.

Use of the name and logo of Meezan Bank Limited as given above does not mean that it is responsible for the liabilities/obligations of Al Meezan Investment Management Limited or any investment scheme managed by it.

Note: The role of Meezan Bank Limited (MBL) is restricted to distribution of Mutual Funds only.